

ابتدائی فرینچ ایمرشن (Early French Immersion) کے فوائد

ابتدائی فرینچ ایمرشن (Early French Immersion) پروگرام کسی بھی زبان کے پس منظر کے طالب علموں کو فرانسیسی زبان میں اعلیٰ سطح کی مہارت پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح دوسری زبان کا مطالعہ کرنے سے طلباء کو بہت سے دوسرے فوائد بھی ملتے ہیں جن میں شامل ہیں:

- ✓ یہ ثابت ہوا ہے کہ دوسری زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے غالب زبان میں طلباء کی مہارتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ✓ زبان کی تعلیم دیگر علمی (cognitive) فوائد پیش کرتی ہے جیسے کہ انتہائی ترقی یافتہ سوچنے کی اور سیکھنے کی مہارتیں جن کا اطلاق طلباء اپنی پڑھائی کے تمام شعبوں پر کرتے ہیں۔
- ✓ ایک سے زیادہ زبانوں میں مہارت طلباء کے لیے مستقبل کے مواقع کے دروازے کھولتی ہے اور مختلف ثقافتوں اور شناختوں کے بارے میں آگاہی کو فروغ دیتی ہے۔
- ✓ دو لسانی طلباء مجموعی طور پر مضبوط مواصلاتی مہارتیں حاصل کرتے ہیں اور اضافی زبانیں زیادہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔

درخواست کی معلومات

ابتدائی فرینچ ایمرشن (Early French Immersion) پروگرام اور درخواست کے عمل کے بارے میں معلومات کے لیے، براہ کرم www.tdsb.on.ca/French ملاحظہ کریں۔

فی الحال، ابتدائی فرینچ ایمرشن (Early French Immersion) پروگرام کے لیے درخواست دینے کی مہلت ہر سال نومبر میں ہوتی ہے۔ کسی سال کے لیے درخواست کی آخری تاریخ کے بارے میں معلومات کے لیے براہ کرم ستمبر کے اوائل میں ویب سائٹ سے رجوع کریں۔

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ پروگرام میں جگہ کے تعین کی ضمانت تمام اہل وقت پر درخواست دہندگان کے لیے ہے، لیکن کسی خاص اسکول میں جگہ کے تعین کی ضمانت نہیں ہے۔

ابتدائی فرینچ ایمرشن (Early French Immersion) کیا ہے؟

ابتدائی فرینچ ایمرشن (Early French Immersion) ایک انتہائی تربیت کی فرانسیسی زبان کا پروگرام ہے جو کنڈرگارٹن سے شروع ہوتا ہے اور گریڈ 12 تک جاری رہتا ہے۔ گریڈ 3 سے گریڈ 4 (JK) سے گریڈ 3 تک کلاس کی تمام سرگرمیاں فرانسیسی زبان میں کی جاتی ہیں۔ ایک ماہر مضمون (مثلاً صحت اور فیزیکل ایجوکیشن) انگریزی میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ گریڈ 4 سے گریڈ 8 تک، پروگرام 50% فرانسیسی اور 50% انگریزی زبان میں پڑھایا جائے گا۔

کون درخواست دے سکتا ہے؟

جونئر کنڈرگارٹن میں داخل ہونے والے تمام بچے ابتدائی فرینچ ایمرشن (Early French Immersion) کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں۔

ابتدائی فرینچ ایمرشن (Early French Immersion) کس کے لیے ہے؟

- ✓ ان خاندانوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو گھر میں فرانسیسی کے علاوہ کوئی اور زبان بولتے ہیں۔
- ✓ ہم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ تمام طلباء دوسری زبان سیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں لہذا تمام سیکھنے کے انداز اور زبان کے پس منظر کے طلباء کا پروگرام میں خیرمقدم اور تعاون کیا جاتا ہے۔
- ✓ ابتدائی فرینچ ایمرشن (Early French Immersion) پروگرام ان تمام خاندانوں کے لیے موزوں ہے جو فرانسیسی زبان میں مہارت پیدا کرنے کے موقع میں دلچسپی رکھتے ہیں۔



تحقیق کیا کہتی ہے؟

"ایف آئی (FI) میں طلباء فرانسیسی زبان میں اعلیٰ مہارت کے ساتھ ساتھ اسکول کے مواد (سائنس، سوشل اسٹڈیز، ریاضی وغیرہ) میں اسی طرح کی مہارت حاصل کرتے ہیں، جس طرح کی انگریزی میں اس مواد کا مطالعہ کرنے والے طلباء حاصل کرتے ہیں۔"
(Wesche, 2002)

کینیڈا کے مختلف حصوں کے تحقیقی مطالعہ سے ای ایف آئی (EFI) یا ایم ایف آئی (MFI) ایلیمینٹری اسکول کے طالب علموں کے لیے ریاضی، سائنس اور سماجی علوم کی کامیابیوں میں انگریزی میں ٹیسٹ کیے جانے پر کوئی منفی اثرات نہیں ملے۔
(Wesche, 2002)

اگرچہ کسی بچے کی پہلی زبان سماجی میں بولی جانے والی زبان نہیں ہو سکتی ہے، بچے کامیابی کے ساتھ ایک اضافی زبان سیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ انگریزی کو دوسری زبان کے طور پر سیکھنے کے ساتھ ساتھ۔ فرانسیسی زبان بھی۔
(O'Brien, 2017)

اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے فرینچ ایمرشن (French Immersion) پروگراموں میں داخلہ لینے والے طلباء نے غیر ایمرشن پروگراموں میں موجود اپنے ہم منصبوں کے مقابلے میں بہتر پڑھنے کی قابلیت کا مظاہرہ کیا۔
<https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/040322/dq040322a-eng.htm>

کتابیات (بلیوگرافی)

Wesche, M.B. (2002) Early French Immersion: How has the original Canadian model stood the test of time? An Integrated View of Language Development, Petra Burmeister, Thorsten Piske, and Andreas Rohde (Eds), WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier.
www.fmks-online.de/_wd_showdoc.php?pic=865

Statistics Canada, (2004) Student Reading Performance in Minority Language Schools.
<https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/040322/dq040322a-eng.htm>

O'Brien (2017) Literature Review on the Impact of Second Language Learning,
Canadian Association of Second Language Teachers.